

جون 2021

ایم۔ ایڈ (ریگولر) M.Ed Regular

چوتھا سمسٹر IV Semester

پرچہ :

Paper - MMED442DST/MMED412DST : Curriculum, Pedagogy and
Assessment in Secondary Education

وقت : 3 Hrs گھنٹے

جملہ نشانات : 70 Maximum. Marks

ہدایات :

- یہ پرچہ سوالات دو حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول اور حصہ دوم۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔
1. حصہ اول میں 10 سوالات ہیں، اس میں سے طالب علم کو کوئی 08 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً سو (100) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 05 نمبرات مختص ہیں۔
(8 x 5 = 40 Marks)
 2. حصہ دوم میں 05 سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی 03 سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کا جواب تقریباً ڈھائی سو (250) لفظوں پر مشتمل ہے۔ سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔
(10x3 = 30 Marks)

حصہ اول

1. تدوین نصاب کے اصولوں کو مختصر بیان کیجیے۔
2. Hidden Curriculum کیا ہے؟ مناسب مثالیں دیجیے۔
3. Advance Pedagogy کے اصولوں کو لکھیے۔
4. Learners Engagement سے کیا مراد ہے؟ مختلف قسموں کے Learners Engagement کا تذکرہ کیجیے۔
5. Pre-Active, Interactive اور Post Active تدریسی مراحل کیا ہیں؟ اس میں معلم کے کردار کو بیان کیجیے۔
6. Pedogogical Analysis of Subject Content سے کیا مراد ہے؟ لکھیے۔
7. غیر علمی نتائج Non-cognitive Outcome اور عملی نتائج Cognitive Outcome کی تشخیص کے ٹیکنیکس اور آلات کی فہرست تیار کیجیے اور یہ تحقیق (Research) میں کس طرح مددگار ہوتے ہیں؟ سمجھائیے۔
8. Essay Type of Tests کے ذریعہ Reasoning Capacity، منطقی سوچ اور منظم پیش کش کو آسانی سے کیسے فروغ دیا جاسکتا ہے؟ سمجھائیے۔
9. نصاب کے تصور اور ضرورت پر روشنی ڈالیے۔
10. طلباء پر Grading اور Grades کے اثرات کی نشاندہی کیجیے۔

حصہ دوم

11. NCF-2005 اور خود مختاری کی مطابقت کے ساتھ مقامی مخصوص امور (Issues) اور چیلنجوں کے حوالے سے نصاب کی تیاری کو تفصیل سے وضاحت کیجیے۔
12. تصورات کے فروغ (Development) ، تنقیدی سوچ (Critical Thinking) اور مسئلہ حل میں Knowledge Construction کے عمل کی وضاحت کیجیے۔
13. Critical Pedagogy سے کیا مراد ہے؟ ریاستی سطح پر Elementary School کے تناظر میں Pedagogy اور Pedagogy کی Applicability کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔
14. Achievement Test کی تعمیر اور Standardization کے Steps کی وضاحت کیجیے۔
15. تعیین قدر میں ICT کے استعمال کی وضاحت کیجیے۔

☆☆☆